

برائے فوری اجراء

برامپٹن کے ریجنل کونسلر پال ویسٹے کو AMO's 2020-2022 کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں منتخب کر لیا گیا ہے

برامپٹن، آن (18 اگست 2020) - آج، برامپٹن کے ریجنل کونسلر پال ویسٹے کو ایسوسی ایشن آف میونسپلٹیٹیز آف اونٹاریو (AMO) بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بورڈ کی مدت برائے 2020-2022 کے لیے بطور ممبر برائے ریجنل اینڈ سنگل ٹائیر کاؤکس (Single Tier Caucus) منتخب کر لیا گیا ہے۔

AMO اونٹاریو کی میونسپلٹیوں کی ایسی پالیسیوں اور پروگراموں کے معاملات کی نمائندگی کرتا ہے جو صوبائی دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ AMO کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 29 منتخب میونسپل افسران اور متعلقہ ممبران پر مشتمل ہے جو اونٹاریو کی مختلف میونسپلٹیوں کے گروہوں کی نمائندگی کرتا ہے۔

AMO's 2020 کی اسٹریٹجک مقاصد کی بنیاد ان چیزوں پر ہے: اونٹاریو حکومت کے ساتھ تعمیری، فعال بلدیاتی اثر و رسوخ؛ اثر و رسوخ پیدا کرنے کے لیے شعبوں میں باہمی تعاون؛ معلومات، تجزیہ، حقائق اور کلیدی پیغامات کی مدد سے ممبر کی معاونت۔ اور ایسی تعلیم اور پروگرام مہیا کرنا جو میونسپل حکومتوں کی حمایت کرتے ہیں۔

سٹی آف برامپٹن مورخہ 17 تا 19 اگست تک منعقد ہونے والی AMO 2020 ورچوئل کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے۔ مزید [پہاں](#) پر جانیں۔

اقتباسات

"کونسلر ویسٹے AMO بورڈ میں برامپٹن کی نمائندگی اچھی طرح کریں گے۔ اونٹاریو کی میونسپلٹیوں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے اور باہمی مشاورت سے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ ہم برامپٹن کو ایک سرسبز و شاداب شہر بنانے، اپنی بڑھوتری کو منتظم کرنے اور کووڈ-19 کے اثرات سے معاشی بحالی کی راہ پر گامزن ہونے کے خواہاں ہیں۔ ایک مضبوط برامپٹن اور پیل ریجن کے لیے کونسلر ویسٹے کا عزم، AMO ممبران کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہو گا۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"AMO بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے منتخب کیے جانے پر مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے، اور میں میئر براؤن، میئر کروی، میئر تھامسن، چیئر ایانیکا اور اپنی کونسلوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کا منتظر ہوں تاکہ سٹی آف برامپٹن اور پیل ریجن کی ترقی و معاشی بحالی کی ترجیحات کو صوبائی سطح پر سامنے لایا جا سکے۔"

- پال ویسٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](http://www.brampton.ca)، [فیس بک](http://www.brampton.ca) اور [انسٹاگرام](http://www.brampton.ca) پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔



Media Release

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca